

بیوہ کا شوہر کی وراثت سے حق
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے
میں کہ ایک ویڈو کا اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی وراثت سے کیا حق
ہے اور میت کی اولاد بھی نہیں ہے -

سائل: عبد اللہ (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

صورت مسئلہ میں برصدق مستفتی و انحصار ورثہ فی المذكورین بعد تقدیم ما يقدم
كالتجهز والتكفين والدين و الوصية۔ شوہر کی پوری جائیداد میں سے چوتھا حصہ
بیوی کو ملے گا -

جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ وَلَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ۔ اور
تمہارے ترکہ میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو

(سورة النساء: 12)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

خادم دارالافتاء یو کے

Date:29 -10-2019

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: What is the share of a widow from her husband's inheritance after his death? The deceased did not have a child.

Questioner: Abdullah from UK

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

If the issue, as explained by the questioner, were true and assuming that the deceased only had the above-mentioned inheritors, the wife will receive ¼th share from the husband's wealth after the deduction of the Janazah, the Kaffan, Debts (if he had any unpaid debts) and the Will (if he had one and it had been fulfilled from one-third of the money or property he left behind).

As Allah Almighty has stated in the Holy Quran:

وَلِئِنَّ الرُّبُعَ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

And to the women is a fourth of what you leave behind if you do not have any child.

[Al-Nisa 4, Verse 12]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Musjidul Haq Research Department (www.musjidulhaq.com)